

21 نومبر 2018

## برامپٹن ٹرانزٹ کو سروس ایکسپینس ایوارڈ سے نوازا گیا

برامپٹن، آن – آج، برامپٹن ٹرانزٹ کو ٹورانٹو میں کینیڈین اربن ٹرانزٹ ایسوسی ایشن (CUTA) کی سالانہ کانفرنس میں سروس ایکسپینس ایوارڈ سے نوازا گیا۔

CUTA اپنی سالانہ کانفرنس میں پورے برامپٹن سے آئے ہوئے اربن پلینرز اور ٹرانزٹ پروفیشنلز کی میزبانی کرتا ہے اور جدت اور ماحول دوستی جیسے زمروں میں کارپوریٹ ایوارڈز دیتا ہے۔ سروس ایکسپینس ایوارڈ کو برامپٹن ٹرانزٹ کی زوم بس ریپڈ ٹرانزٹ سروس (BRT) کی منفرد کامیابی اور سواریوں میں ناقابل یقین اضافے کو تسلیم کرنے کے لیے اس سال خصوصی طور پر تخلیق کیا گیا تھا۔

"زوم" کہلائی جانے والی، برامپٹن کی BRT سروس کو شہریوں کو ایک مؤثر، بکثرت دستیاب، آرام دہ سروس فراہم کرنے کے لیے بنیاد سے اٹھا کر بنایا گیا تھا۔ زوم کا آغاز موسم خزاں 2010 میں کیا گیا تھا اور اب اس کے پانچ ایسے راستے ہیں، جو شہر میں پانچ بڑی راہداریوں کو خدمات فراہم کرتے ہوئے مقامی اور علاقائی راستوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ ستمبر 2018 میں، زوم بوویرد سروس کو مالٹن گو اسٹیشن تک بڑھایا گیا تھا – جو ایک اور کلیدی علاقائی رابطہ ہے۔

BRT سروس اور پورے برامپٹن کی ٹرانزٹ لائنز کی کامیابی کا کینیڈا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ 2009 سے، برامپٹن کی آبادی 22 فیصد بڑھی ہے، جبکہ برامپٹن ٹرانزٹ پر سواریاں 120 فیصد بڑھ گئی ہیں۔ سواریوں کی تعداد میں اضافہ 2018 میں بھی جاری ہے۔ اگست 2018 تک، 2017 کے مقابلے میں سواریاں 17 فیصد بڑھ گئی ہیں۔

برامپٹن ٹرانزٹ نے اپنی ہر دلچیز BRT سروس فراہم کرنے، ہر نئے روٹ کے آغاز کے ساتھ سواریوں کی بڑھوتری میں مجموعی ریکارڈ حاصل کرنے اور نئے روٹس شروع نہ کیے جانے والے سالوں میں بھی سواری میں مسلسل اضافہ حاصل کرنے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ مجموعی طور پر بہتر سروس، صارفین کے لیے بہترین تجربہ اور سروس اور اس تجربے کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی نے برامپٹن ٹرانزٹ کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔

CUTA اراکین پر مبنی ایک انجمن ہے، جو پورے کینیڈا میں منظم حرکت پذیری کی ایک بنیاد کے طور پر عوامی ذرائع آمد رفت کی معاونت کرتا ہے۔ CUTA اس شعبے میں کامیابی کے لیے درکار معاونت فراہم کرنے کے لیے اپنے اراکین کو وسائل، نیٹ ورکنگ، تربیت، تقریبات، ڈیٹا، تحقیق اور اپنی حمایت فراہم کرتا ہے۔ اس تنظیم کا نظریہ منظم شدہ شہری حرکت پذیری کی بڑھوتری کی ترغیب دلانا اور اس پر اثر انداز ہونا ہے۔

### اقتباسات

"ہمیں اس ایوارڈ کی جانب سے برامپٹن ٹرانزٹ اور زوم سروس کی زبردست کامیابی اور سواری میں بے مثال بڑھوتری کو تسلیم کیے جانے پر فخر ہے۔ ہمارا مقصد اپنے ٹرانزٹ کے سواریوں کی ضروریات کو پورا کرنا رہا ہے اور ہم نے پچھلے دور کے دوران کئی زبردست بہتریاں لائی ہیں۔ یہ ایوارڈ سمارٹ، قابل استحکام اور علاقائی طور پر مربوط ٹرانزٹ سروس میں برامپٹن کے قائدانہ کردار کو ظاہر کرتا ہے۔"

میئر لنڈ جیفری

"CUTA کی جانب سے سروس ایکسپینس کا ایوارڈ ہمارے شہر اور ٹرانزٹ سسٹم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم اپنے شہریوں کی جانب سے ایک بڑے، گنجان اور آگے کا سوچنے والے شہر سے توقع کی گئی خدمات فراہم کرنا جاری رکھنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ ہم اپنی سواریوں اور ایک جدید اور سمارٹ ٹرانزٹ سسٹم اور بہترین خدمات کی فراہمی کے لیے وقف ہیں۔"

ایلیکس ملوجیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم نیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

کرسٹین شرما

میڈیا ریلیشنز، سٹی آف برامپٹن

905.874.2880 | [christine.sharma@brampton.ca](mailto:christine.sharma@brampton.ca)